



## Noble Quran

اردو ترجمہ Quran Urdu Translation

تفسیر Quran Tafsir

## الْحَكِيمُ الْقُرْآن

مولانا محمد صاحب جو ناگری

Maulana Muhammad Sahib

مولانا صالح الدین یوسف

Maulana Salahuudin Yusuf

### Surah An Nas

#### سورة النصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَلَا يَجِدُ لِلَّهِ أَفْوَاجًا (1)

جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے۔

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُوْاجًا (2)

اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جو ق در جو ق آتا دیکھ لے

اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے،

اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو دہاں سے بھرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔

چنانچہ جب ۸ بھری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جب کہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہو تو۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا (3)

تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ ہم کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعائیں، بیشک وہ بڑا ہی توہبہ قبول کرنے والا ہے

یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جو تیرے ذمہ تھا، پورا ہو گیا اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے، اس نے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔

اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہئے۔

\*\*\*\*\*



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)